

چائیں۔ خاک دشمن کے اُس جائیں، جھک سامنے کے اُس باشندے کے ریگستان

10	מלְכִי	תְּרִישׁ	וְאֵיִם	מְנַחֵה	יִשְׁבוּ	מַלְכִי	שָׂבָא	אֶסְבָּא	אֲשַׁכֵּר	יִקְרִיבוּ:
	بادشاہ	ترسیس	و-جزیروں کے	نذر	لائیں گے	بادشاہ	شبا	و-سبا کے	نذرانہ	پیش کریں گے
	H4428	H8659	H0339	H4503	H7725	H4428	H7614	H5434	H0814	H7126

کریں۔ پیش باج اُسے سبا اور سبا پہنچائیں، خراج اُسے بادشاہ کے علاقوں ساحلی اور ترسیس

11	וְיִשְׁתַּחֲוּוּ-	לָז	כָּל-	מַלְכִים	כָּל-	גִּזְיִם	יַעֲבֹדוּהוּ:
	و-سجدہ کریں گے	ل-اُسے	سب	بادشاہ	سب	قومیں	اُس کی-خدمت کریں گے
	H7812	H3605	H4428	H3605	H3605	H5647	

کریں۔ خدمت کی اُس اقوام سب کریں، سجدہ اُسے بادشاہ تمام

12	כִּי-	יֵצֵיל	אֶבְרֹן	מְשׁוּעַ	אֶעֱזִי	וְאִין-	עֲזָר	לָז:
	کیونکہ	وہ-بچائے گا	محتاج-کو	فریاد-کرنے والے	و-غریب-کو	و-نہیں	مددگار	ل-اُس-کو
		H5337	H0034	H7768	H6041	H0369	H5826	

گا۔ دے رہائی وہ اُسے کرتا نہیں کوئی مدد کی جس اور بے میں مصیبت جو گا، دے چھٹکارا وہ اُسے پکارے لئے کے مدد مند ضرورت جو کیونکہ

13	יָחֵס	עַל-	רַל	וְאֶבְרֹן	וְנַפְשׁוֹת	אֶבְרֹנִים	יִזְשִׁיעַ:
	وہ-ترس-کھائے گا	پر	کمزور	و-محتاج	و-جانوں-کو	محتاجوں-کی	وہ-بچائے گا
	H2347	H1800	H0034	H5315	H0034	H3467	

گا۔ بچائے کو جان کی محتاجوں گا، کھائے ترس پر غریبوں اور حالوں پست وہ

14	מִתְרוֹךְ	וּמְחַמָּס	יִנְאֵל	נַפְשָׁם	וַיִּיקַר	רָמָם	בְּעֵינָיו:
	من-دھوکے	و-من-ظلم	وہ-چھڑائے گا	اُن-کی-جان-کو	و-قیمتی-بو-گا	اُن-کا-خون	پ-اُس-کی-آنکھوں-میں
	H8496	H2555	H5315	H3365	H1818		

بے-قیمتی میں نظر کی اُس خون کا اُن کیونکہ گا، چھڑائے سے تشدد و ظلم اُنہیں کر دے عوضانہ وہ

15	וַיְהִי	וַיִּתֵּן-	לָז	מִזֶּהָב	שָׂבָא	וַיִּתְפַּלֵּל	בְּעֵרָז	תְּמִיד	כָּל-	הַיּוֹם
	و-جیتا-ریے	و-دیا-جائے	ل-اُس-کو	من-سونے	شبا-کے	و-دعا-کی-جائے	پ-اُس-کے-لیے	بمیشہ	سارا	ہ-دن
	H2421	H5414	H2091	H7614	H1157	H8548	H3605	H3117		

بְּרַכְנָהוּ:

اُسے-برکت-دی-جائے
[H1288](#)

چاہیں۔ برکت لئے کے اُس بھر دن کریں، دعا لئے کے اُس ہمیشہ لوگ جائے۔ دیا اُسے سونا کا سبا باد! زندہ بادشاہ

16	יְהִי	פֶסֶת	אֶבְרָם	בְּאֶרְץ	בְּרֵאשׁ	הָרִים	יִרְעַשׁ	כְּלָבָנוֹן	פְּרִז	וַיִּצְיֵצוּ
	بو	کثرت	غلہ-کی	پ-ہ-زمین-پر	پ-چوٹی	ہ-پہاڑوں-کی	لہرائے گا	ک-لبنان	اُس-کا-پھل	و-پھولیں-گے
	H1961	H6451	H0776	H2022	H7493	H3844	H6529			

יְמֵיר
من-شہر-سے
ک-گھاس
ہ-زمین-کے
[H6212](#)
[H0776](#)

کی بریالی باشندے کے شہروں بو، عمدہ جیسا پھل کے لبنان پھل کا اُس لہلہائیں۔ فصلیں کی اُس بھی پر چوٹیوں کی پہاڑوں بو، کثرت کی اناج میں ملک پھولیں۔ پھلیں طرح

17	יְהִי	שָׁמוֹ	לְעוֹלָם	לְפָנֶי-	שָׁמוֹ	[ינין]	(ינין)	שָׁמוֹ	וַיִּתְבָּרְכוּ
	بو	اُس-کا-نام	ل-بمیشہ	ل-سامنے	سورج-کے	[بڑھے-گا]	(قائم-ریے-گا)	اُس-کا-نام	و-برکت-پائیں-گے
	H1961	H8034	H5769	H6440	H8121	H5125	H5125	H8034	H1288

בּו
پ-اُس-میں
سب
قومیں
اُسے-مبارک-کریں-گی
[H3605](#)
[H0833](#)

کہیں۔ مبارک اُسے وہ اور پائیں، برکت سے اُس اقوام تمام بھولے۔ پہلے نام کا اُس چمکے سورج تک جب رہے، قائم تک ابد نام کا بادشاہ

18 **אֱלֹהִים אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל עֲשָׂה נִפְלְאוֹת לְבָדִי:**
مبارک-بے یہوواہ خدا خدا اسرائیل-کے کرنے-والا عجائب اکیلا
[H3068](#) [H0430](#) [H0430](#) [H3478](#) [H0905](#) [H6381](#)

بے! کرتا معجزے وہی صرف ہے۔ خدا کا اسرائیل جو ہو تمجید کی خدا رب

19 **אֱמִן וְ-מִבְרָכָה שֵׁם כְּבוֹדוֹ לְעוֹלָם וַיִּמְלֵא וְ-בְהֵרַע-גִּי אֲס-כָ-جִלָּל אֶת-כָּל הָאָרֶץ אֱמִן**
و-مبارک-بے نام اُس-کے-جلال-کا ل-بمیشہ و-بهرے-گی اُس-کا-جلال کو ساری ہ-زمین آمین
[H8034](#) [H1288](#) [H3519](#) [H5769](#) [H4390](#) [H3519](#) [H0853](#) [H3605](#) [H0776](#) [H0543](#)

אֱמִן:
و-آمین
[H0543](#)

آمین۔ پھر آمین، جائے۔ بھر سے جلال کے اُس دنیا پوری ہو، تمجید تک ابد کی نام جلالی کے اُس

20 **כָּלֹ בְּ-תַפְלֹת דָּוִד בֶּן-יִשִׁי:**
ختم-بوئیں دعائیں داؤد بیٹے یسی-کے
[H3615](#) [H8605](#) [H1732](#) [H3448](#)

ہیں۔ بوتی ختم دعائیں کی یسی بن داؤد یہاں